

Surah 72: Al-Jann - سورة الجن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[72:0] Bismi **ALLAH**, Alrahman, Alrahim.*

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ۝١

[72:1] Ka ce, "An yi wahayi zuwa gare ni cewa wasu jama'a na aljannu sun saurari (karatuna), sai suka ce, Lalle, mun ji Alqur'ani mai ban mamaki.*

*72:1-28 Manzon da aka ambata a nan ta hanyan ilmin lissafi shi ne "Rashad Khalifa," wanda ta hannunsa ne Allah Ya bayyana qarshen duniya (Shafi 25). Lambar ayoyi daga 1:1 to 72:27, wurin da aka ambaci manzo, shi ne 5472, $19 \times 72 \times 4$. Kalman "Rashada" ya auku sau 4 a cikin Surah 72. Nauyin abjadin "Rashada" 504 ne, da $504 + 28$ (ayoyin Suran 72) 532 ne, 19×28 . Nauyin abjadin "Rashad Khalifa" $(1230) + 72 + 28 = 1330 = 19 \times 70$. digon Sura ta 72 da lambobinta na ayoyin (28) sun jimlanta zuwa $7 + 2 + 2 + 8 = 19$. Kuma, muhimmiyar lafazin kalman da aka yi cewa, "sai dai ga manzon da Ya zaba ne kawai" tana da nauyin abjadin 1919, 19×101 .

يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۖ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۝٢

[72:2] "Yana shiryawa zuwa ga hanyar qwarai, saboda haka mun yi imani da shi; ba za mu koma bauta wa Ubangijinmu tare da kowa ba.

وَأَنَّهُ تَعَلَّى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۝٣

[72:3] "Kuma mafi daukaka Shi ne Ubangijinmu Shi kadai. Bai taba samun mata ba, ko yaro.

وَأَنَّهُ كَانَ يَفُولُ سَفِيهًا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ۝٤

[72:4] "Wawa ne a cikinmu wanda, da ke furcin abin da ya qetare haddi game da **ALLAH**.

وَأَنَاظَنَّا أَنْ لَنْ نَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴿٥﴾

[72:5] "Mun yi zaton mutum ko aljani ba za su iya fadar qarya game da **ALLAH** ba."

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿٦﴾

[72:6] "Kuma da mutane, sun kasance suna neman tsari daga cikin aljannu, amma suna qara masu wahala ne mai yawa.

وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ﴿٧﴾

[72:7] "Kuma sun yi zato, kamar yadda kuka yi zato, cewa **ALLAH** ba zai aiko da wani (*manzo*) ba.

وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا فِيهَا مَلَأَتْ حَرًّا شَدِيدًا وَشُهَبًا ﴿٨﴾

[72:8] "Kuma mun nemi (*hawan*) sama, sai muka same ta an cika ta da tsaro mai tsanani da kuma yulaye."

وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْمَعُ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شُهَابًا
رَّصَدًا ﴿٩﴾

[72:9] "Kuma da mukan zauna a wurin, domin mu yi leqen asiri. Wanda kuwa ya saurara akan bi shi da yula mai dako.

وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿١٠﴾

[72:10] "Ba mu sani ba, ko shin, an yi nufin wata sharri ga wadanda ke cikin qasa, ko Ubangijinsu Ya yi nufin shiriya a gare su.

وَأَنَّا مَنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدْدًا ﴿١١﴾

[72:11] "Kuma wadansu daga cikinmu salihai ne, kuma a cikinmu akwai wadanda ba haka ba ne; mu masu bin hanyoyi dabam-dabam ne.

وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا ﴿١٢﴾

[72:12] "Kuma mun tabbata ba za mu buwayi **ALLAH** ba a cikin qasa; ba za mu buwaye Shi da guduwa ba.

وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ ءَأَمْنَا بِهِ ءَ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ ءَ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا
وَلَا رَهَقًا ﴿١٣﴾

[72:13] "Kuma a lokacin da muka ji shiriya, mun yi imani da ita. Duk wanda ya yi imani da Uhangijinsa, ba zai ji tsoron zalunci ba, ko tsoron cuta.

وَأَنَّا مِمَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِمَّا الْقَاسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا
رَشَدًا ﴿١٤﴾

[72:14] "Kuma a cikinmu akwai wadanda suke muslimai, kuma a cikinmu akwai qasitai masu gajartawa. Wadanda suka sallama suna kan hanya madaidaiciya.

وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿١٥﴾

[72:15] "Amma masu gajartawa, za su zama makamashi ga Jahannama.

وَأَلْوِاسْتَقْمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقِينَهُمْ مَاءً غَدَقًا ﴿١٦﴾

[72:16] "Idan suka tsaya sosai a kan hanya, za mu shayar da su ruwa mai yawa.

لِنَفْنِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿١٧﴾

[72:17] Lalle za mu jarrabe su duka. Amma kuma wanda ya kau da kai daga tuna Ubangijinsa zai shigar da shi azaba mai hauhawa.

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾

[72:18] Kuma lalle ne wuraren sujudah na **ALLAH** ne, saboda haka kada ku kira kowa tare da **ALLAH** Daya.

وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿١٩﴾

*Manzon Allah na Wa'adi**

[72:19] A lokacin da bawan* **ALLAH** ke kiran Sa Shi Kadai, kusan dukansu suka hada baki su yi hamayya da shi.

**72:1-28 Manzon da aka ambata a nan ta hanyan ilmin lissafi shi ne "Rashad Khalifa," wanda ta hannunsa ne Allah Ya bayyana qarshen duniya (Shafi 25). Lambar ayoyi daga 1:1 to 72:27, wurin da aka ambaci manzo, shi ne 5472, 19x72x4. Kalman "Rashada" ya auku sau 4 a cikin Surah 72. Nauyin abjadin "Rashada" 504 ne, da 504+28 (ayoyin Suran 72) 532 ne, 19x28. Nauyin abjadin "Rashad Khalifa" (1230)+72+28=1330 =19x70. digon Sura ta 72 da lambobinta na ayoyin (28) sun jimlanta zuwa 7+2+2+8=19. Kuma, muhimmiyar lafazin kalman da aka yi cewa, "sai dai ga manzon da Ya zaba ne kawai" tana da nauyin abjadin 1919, 19x101.*

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ﴿٢٠﴾

[72:20] Ka ce, "Ubangijina ne kadai ni ke bautawa; ba na tarayyan kowa da Shi.

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾

[72:21] Ka ce, "Ban mallaka wani iko ba, domin in cutar da ku, ko in shiriyar da ku ba.

قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٢٢﴾

[72:22] Ka ce, "Babu kowa da zai iya cetona daga **ALLAH**, kuma ba zan iya samun mafaka ba, baicinSa."

إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ ۗ وَمَن يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۙ إِنَّا لَهُ نَارُ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿٢٣﴾

[72:23] "Sai kawai zayyanawar **ALLAH** da manzancinSa." Wadannda suke saba wa **ALLAH** da ManzonSa, to, sun jawo wa kansu wutar Jahannama wurin da za su yi zaman madauwama a cikinta, har abada.

حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَيَسْئَلُونَ مَن أُضْعِفُ نَاصِرًا وَّأَقْلُ عَدَدًا ﴿٢٤﴾

[72:24] Har idan sun ga abin da ke jiransu to, za su san wanda shi ne mai mafi raunin mataimaki da mafi qarancin adadi.

قُلْ إِنِ ادْرَيْتَ أَقْرَبُ مَا تُوْعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا ﴿٢٥﴾

[72:25] Ka ce, "Ban sani ba ko abin da ake yi maku alkauri da shi kusa ne, ko Ubangijina zai dan jinkirta shi na wani lokaci."

عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ﴿٢٦﴾

[72:26] Shi ne Masanin gaibi; saboda haka, ba Ya bayyana gaibinSa ga kowa.

إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿٢٧﴾

[72:27] "Sai ga manzon da Ya yarda da shi,* shi ne Yake bayyana gaba gare shi, da baya gare shi.*

*72:1-28 Manzon da aka ambata a nan ta hanyan ilmin lissafi shi ne "Rashad Khalifa," wanda ta hannunsa ne Allah Ya bayyana qarshen duniya (Shafi 25). Lambar ayoyi daga 1:1 to 72:27, wurin da aka ambaci manzo, shi ne 5472, 19x72x4. Kalman "Rashada" ya auku sau 4 a cikin Surah 72. Nauyin abjadin "Rashada" 504 ne, da 504+28 (ayoyin Suran 72) 532 ne, 19x28. Nauyin abjadin "Rashad Khalifa" (1230)+72+28=1330 =19x70. digon Sura ta 72 da lambobinta na ayoyin (28) sun jimlanta zuwa 7+2+2+8=19. Kuma, muhimmiyar lafazin kalman da aka yi cewa, "sai dai ga manzon da Ya zaba ne kawai" tana da nauyin abjadin 1919, 19x101.

لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولًا رَّبَّهُمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿٢٨﴾

[72:28] "Domin Ya san lalle, sun iyar da saqonin Ubangijinsu, Ya san abin da ke tare da su, kuma Ya lissafa dukan kome da qididdiga.